



### کووڈ-19 کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں کی جانے والی تبدیلیاں 31 مارچ سے مؤثر ہونے جائیں گی

برامپٹن آن (30 مارچ 2020) – کورونا وائرس (کووڈ-19) کے ردعمل میں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ برامپٹن ٹرانزٹ اپنی کمیونٹی کو بحفاظت خدمات فراہم کر رہا ہے، 31 مارچ سے شروع کرتے ہوئے بس سروس میں درج ذیل تبدیلیاں عمل میں لائی جائیں گی۔

کل سے لاگو ہونے کے بعد تا حکم ثانی درج ذیل روٹ صبح کے اوقات (صبح 6 تا 9) اور دن کے اوقات (دن 3 تا شام 7) کی رش کے اوقات کی سروس نہیں فراہم کی جائے گی۔ مگر تقریباً صبح 9 سے دن 3 تک دن کی خدمات اور معمول کے مطابق شام 7 بجے کے بعد کی شام کی خدمات کی فراہمی جاری رہے گی۔

- 12 گرینویل
- 13 ایون ڈیل
- 16 ساؤتھ گیٹ
- 17 ہاؤٹن
- 19 فرن فورسٹ
- 32 فادر ٹوبن
- 33 پیٹر رابرٹسن
- 56 کنگ نول

ان تبدیلیوں کا اطلاق اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان میں سے کچھ اضافی وسائل کو برامپٹن ٹرانزٹ کے زیادہ مصروف تر روٹس پر منتقل کیا جا سکے، کیونکہ ہم جسمانی فاصلہ بندی کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے بسوں میں سواریوں کو آدھی سیٹوں کی گنجائش تک محدود کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا ایک اضافہ شدہ شیڈول زیر عمل ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ ہر 48 گھنٹے کے بعد تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ ٹھوس جگہوں والی سہولت گاہوں اور ٹرینلز کو روزانہ کی بنیادوں پر صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے گا۔ مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنے پاس اپنا کوئی ذاتی جراثیم کش رکھیں، مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔

سٹی آف برامپٹن خطروں پر نظر رکھنا جاری رکھنے کے لیے پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ قربت میں طور پر کام کر رہا ہے۔ باقاعدگی سے اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) پر جائیں یا ٹویٹر پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ سوالات 905-874-2999 پر بھیجے جا سکتے ہیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)